

109183 - حج تمتع کی نیت کو حج افراد میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے

سوال

کیا یہ جائز ہے کہ حج تمتع کی نیت کو حج افراد کی نیت سے بدل دیا جائے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

"حج تمتع کی نیت سے حج افراد یا مفرد میں منتقل ہونا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے، ہاں افراد سے تمتع میں منتقل ہونا جائز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حج مفرد کی نیت سے احرام باندھے ہوئے ہو تو وہ اپنے احرام کی نیت کو حج سے عمرے میں تبدیل کر دے تا کہ متمتع بن جائے، اسی طرح حج قرآن کرنے والا شخص بھی اپنی نیت کو تبدیل کر کے عمرے کی نیت میں بدل سکتا ہے تا کہ متمتع بن جائے، تاہم ان دونوں صورتوں میں جو شخص اپنے ساتھ قربانی لیکر آیا ہے تو وہ اپنی نیت کو نہیں بدل سکتا اس کیلئے نیت کو بدلنا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جنہوں نے حج مفرد کا احرام باندھا ہے یا حج قرآن کا احرام باندھا ہے وہ اپنے حج کی نیت کو صرف عمرے کی نیت میں تبدیل کر لیں اور حج تمتع کرنے والے بن جائیں، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ساتھ قربانیاں لائے ہیں۔" ختم شد

"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (89-22/88)

والله اعلم.